

القرآن الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں کے شر سے

المنزل-۷

آیائہا - ۴۳۱ , رُكُوعَاتُهَا - ۲۲

تَبَارَكَ الَّذِي - ۲۹

رُكُوعَاتُهَا-۲

سُوْرَةُ الْمُلْكِ (مَكِّي)

آيَاتُهَا-۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

وہ ذات با برکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②

جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کس کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب بخشنے والا ہے

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ③

جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے تو رحمان کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا تو پھر نگاہ دوڑا کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④

پھر دوبارہ نگاہ کر تیری طرف نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ④
ہوئی ہو گی

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤

اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور ہم نے ⑤
انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا ہے اور ہم نے ان کے لیے
بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥

اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ⑥
ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفورُ ⑦

جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آواز سنیں گے اور ⑦
وہ جوش مارتی ہوگی

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ⑧
ایسا معلوم ہو گا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی جب اس ⑧
میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے
کیاتمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۗ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي

ضَلَالٍ كَبِيرٍ ⑨

وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس ڈرنے والا آیا تھا پر ہم نے ⑨
جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم خود بڑی
گمراہی میں پڑے ہوئے ہو

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩

اور کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا تو ہم دوزخیوں میں نہ ⑩
ہوتے

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑪

پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے سو دوزخیوں پر پھٹکار ہے ⑪

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑫

بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ⑫
بخشش اور بڑا اجر ہے

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑬

اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو بے شک وہ سینوں کے بھید ⑬
خوب جانتا ہے

إِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ⑭

بھلا وہ نہیں جانتا جس نے (سب کو) پیدا کیا وہ بڑا باریک بین ⑭
اع خبردار ہے

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ⑮

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا سو تم اس کے ⑮
راستوں میں چلو پھر اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس
پھر کر جانا ہے

ءَأَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ⑯

کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں ⑯
دھنسا دے پس یکایک وہ لرزنے لگے

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ⑰

کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسائے ⑰
دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ⑱

اور ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر ہماری ناراضگی ⑱
کا کیا نتیجہ ہوا

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَيَقْبِضْنَ ۗ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ بَصِيرٌ ⑲

اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے اور سکیڑتے ⑲
ہوئے نہیں دیکھا جنہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا ہے شک وہ
ہر چیز کو دیکھ رہا ہے

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۗ إِنَّ الْكُفْرُونَ إِلَّا فِي عُرُورٍ ۚ ﴿٢٠﴾

بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو رحمن کے مقابلہ میں تمہاری مدد ﴿٢٠﴾ کرے گا کچھ نہیں کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۚ ﴿٢١﴾

بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی بند کر لے ﴿٢١﴾ کچھ نہیں بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے بیٹھے ہیں

أَفَمَنْ يَّمْشِي مَكْبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَّمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ ﴿٢٢﴾

پس کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے وہ زیادہ راہ ﴿٢٢﴾ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۚ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۚ ﴿٢٣﴾

کہہ دو اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور ﴿٢٣﴾ دل بھی بنائے ہیں (مگر) تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۚ ﴿٢٤﴾

کہہ دو اسی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور اسی کے پاس جمع ﴿٢٤﴾ کر کے لائے جاؤ گے

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ﴿٢٥﴾

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہو گا اگر تم سچے ہو ②۵

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②۶

کہہ دو اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ②۶

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ②۷

پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی ②۷ جو کافر ہیں اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِی اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ②۸

کہہ دو بھلا دیکھو تو سہی اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ②۸ ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکے

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ②۹

کہہ دو وہی رحمن ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے ②۹ بھروسہ بھی کر رکھا پس عنقریب تم جان لو گے کون صریح گمراہی میں ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ③۰

کہہ دو بھلا دیکھو تو سہی اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ③۰
عہ ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے گا

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ①

ن قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں ①

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ②

آپ اللہ کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں ②

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③

اور آپ کے لیے تو بے شمار اجر ہے ③

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ④

اور بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں ④

فَسْتَبْصِرْ وَيُبَصِّرُونَ ⑤

پس عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے ⑤

بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ⑥

کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے ⑥

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑦

بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکا ⑦
ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ⑧

پس آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں ⑧

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ⑨

وہ تو چاہتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں ⑨

وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ⑩

اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہا نہ مان ⑩

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ⑪

جو طعنے دینے والا چغلی کھانے والا ہے ⑪

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑫

نیگی سے روکنے والا حد سے بڑھا ہوا گناہگار ہے ⑫

عُقُلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ⑬

بڑا اجڈ اس کے بعد بد اصل بھی ہے ⑬

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ⑭

اس لئے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے ⑭

إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ أَيُّنَّا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑮

جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ⑮
ہیں

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ⑯

عنقریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے ⑯

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ⑰

بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا ⑰
تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کا
پہل توڑ لیں گے

وَلَا يَسْتَنْوِنَ ⑱

اور انشاللہ بھی نہ کہا تھا ⑱

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ⑲

پھر تو اس پر رات ہی میں آپ کے رب کی طرف سے ایک جھونکا ⑲
چل گیا درآنحالیکہ وہ سونے والے تھے

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ⑳

پھر وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا ⑳

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ㉑

پھر وہ صبح کو پکارنے لگے ㉑

أَنْ اٰغْدُوا عَلٰی حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ㉒

کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم نے پھل توڑنا ہے ﴿۲۲﴾

فَانْطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۲۳﴾

پھر وہ آپس میں چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے چلے ﴿۲۳﴾

أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿۲۴﴾

کہ تمہارے باغ میں آج کوئی محتاج نہ آنے پائے ﴿۲۴﴾

وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿۲۵﴾

اور وہ سویرے ہی بڑے اہتمام سے پھل توڑنے کی قدرت کا خیال کر کے چل پڑے ﴿۲۵﴾

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿۲۶﴾

پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راہ بھول گئے ہیں ﴿۲۶﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۲۷﴾

بلکہ ہم تو بدنصیب ہیں ﴿۲۷﴾

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿۲۸﴾

پھر ان میں سے اچھے آدمی نے کہا کیامیں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کس لیے تسبیح نہیں کرتے ﴿۲۸﴾

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۹﴾

انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ظالم تھے ﴿۲۹﴾

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٣٠﴾

پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے

قَالُوا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

انہوں نے کہا ہائے افسوس بے شک ہم سرکش تھے

عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾

شاید ہمارا رب ہمارے لیے اس سے بہتر باغ بدل دے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں

كٰذٰلِكَ الْعٰذَابُ ۗ وَلَعٰذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

عذاب یونہی ہوا کرتا ہے اور البتہ آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے
سرع کاش وہ جانتے

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾

بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغ ہیں

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

پس کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے

مَا لَكُمْ ۗ ^{وقفہ} كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

تمہیں کیا ہو گیا کیسا فیصلہ کر رہے ہو

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ^{٣٧}

کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو³⁷

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ^{٣٨}

کہ بے شک تمہیں آخرت میں ملے گا جو تم پسند کرتے ہو³⁸

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالِغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^{٣٩} إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ^{٣٩}

کیا تمہارے لیے ہم نے قسمیں کھالی ہیں جو قیامت تک چلی جائیں³⁹
گی کہ بے شک تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے

سَأَلُهُمْ^{٤٠} أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ^{٤٠}

ان سے پوچھیئے کون سا ان میں اس بات کا ذمہ دار ہے⁴⁰

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ^{٤١} إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ^{٤١}

کیا ان کے معبود ہیں پھر اپنے معبودوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں⁴¹

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ^{٤٢}

جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں⁴²
گے تو وہ نہ کر سکیں گے

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ^{٤٣} وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ^{٤٣}

ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہو گی اور وہ پہلے⁴³
(دنیا میں) سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے حالانکہ وہ صحیح سالم

ہوتے تھے

فَدَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَدَسْتُدْرَجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ^{٤٤}
پس مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو ہم انہیں^{٤٤}
بتدریج (جہنم کی طرف) لے جائے گے اس طور پر کہ انہیں خبر بھی
نہیں ہو گی

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ^{٤٥}

اور ہم انکو ڈھیل دیتے ہیں بے شک ہماری تدبیر زبردست ہے^{٤٥}

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ^{٤٦}

کیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں کہ جس کا تاوان کا ان پر بوجھ^{٤٦}
پڑ رہا ہے

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ^{٤٧}

یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں^{٤٧}

فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ^{٤٨}

پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور مچھلی والے جیسے^{٤٨}
نہ ہوجائیں جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ بہت ہی غمگین
تھا

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَلْبُدَّ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ^{٤٩}

اگر اس کے رب کی رحمت اسے نہ سنبھال لیتی تو وہ برے حال سے^{٤٩}
چٹیل میدان میں پھینکا جاتا

فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

پس اسے اس کے رب نے نوازا پھر اسے نیک بختوں میں کر دیا ﴿٥٠﴾

وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں ﴿٥١﴾
جب کہ انہوں نے قرآن سنا اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے

أَمْ عِندَهُمْ عِزٌّ مَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

﴿٥٢﴾ اور حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہے

رُكُوْعَاتُهَا-٢	سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ (مَكِّي)	أَيَّاتُهَا-٥٢
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

١ الْحَاقَّةُ ﴿١﴾

١ قیامت

٢ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾

٢ قیامت کیا چیز ہے

٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾

٣ اور تمہیں کس چیز نے بتایا کہ قیامت کیا ہے

٤ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

ثمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا تھا ④

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ⑤

سو ثمود تو سخت ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے ⑤

وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑥

اور لیکن قوم عاد سو وہ ایک سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے ⑥

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ

أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑦

وہ ان پر سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار چلتی رہی (اگر تو موجود ہوتا) ⑦
اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا کہ گھری ہوئی کھجوروں
کے تنے ہیں

فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ⑧

سو کیا تمہیں ان کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے ⑧

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكِ بِالْخَاطِئَةِ ⑨

اور فرعون اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں والے گناہ ⑨
کے مرتکب ہوئے

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَّابِيَةً ⑩

پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں ⑩
سخت پکڑ لیا

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝^{١١}

بے شک ہم نے جب پانی حد سے گزر گیا تھا تو تمہیں کشتی میں ①
سوار کر لیا تھا

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَدْنَىٰ ۝^{١٢} وَأَعْيَتْ ۝^{١٣}

تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنائیں اور اس کو کان یا د ②
رکھنے والے یاد رکھیں

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝^{١٣}

پھر جب صور میں پھونکا جائے گا ایک بار پھونکا جانا ③

وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝^{١٤}

اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے پس وہ دونوں ریزہ ریزہ کر ④
دیئے جائیں گے

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝^{١٥}

پس اس دن قیامت ہو گی ⑤

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝^{١٦}

اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بودا ہوگا ⑥

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۝ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَةٌ ۝^{١٧}

اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے اور عرش الہی کو اپنے اوپر ⑦
اس دن اٹھ فرشتے اٹھائیں گے

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز مخفی نہ رہے گا ﴿١٨﴾

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ ۚ ﴿١٩﴾

جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا سو وہ ﴿١٩﴾ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيهِ ۚ ﴿٢٠﴾

بے شک میں سمجھتا تھا کہ میں اپنا حساب دیکھوں گا ﴿٢٠﴾

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۚ ﴿٢١﴾

سو وہ دل پسند عیش میں ہو گا ﴿٢١﴾

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ ﴿٢٢﴾

بلند بہشت میں ﴿٢٢﴾

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۚ ﴿٢٣﴾

جس کے میوے جھکے ہوں گے ﴿٢٣﴾

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۚ ﴿٢٤﴾

کھاؤ اور پیو ان کاموں کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں ﴿٢٤﴾ اگے بھیجے تھے

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ ۚ ﴿٢٥﴾

اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کہے گا اے ﴿۲۵﴾
کاش میرا اعمال نامہ نہ ملتا

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ ﴿۲۶﴾

اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ﴿۲۶﴾

يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿۲۷﴾

کاش وہ (موت) خاتمہ کرنے والی ہوتی ﴿۲۷﴾

مَا آغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ﴿۲۸﴾

میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا ﴿۲۸﴾

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ﴿۲۹﴾

مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی ﴿۲۹﴾

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿۳۰﴾

اسے پکڑو اسے طوق پہنا دو ﴿۳۰﴾

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿۳۱﴾

پھر اسے دوزخ میں ڈال دو ﴿۳۱﴾

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿۳۲﴾

پھر ایک زنجیر میں جس کا طول ستر گز ہے اسے جکڑ دو ﴿۳۲﴾

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿۳۳﴾

بے شک وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے ③③

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ③④^ط

اور نہ وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی رغبت دیتا تھا ③④

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ③⑤^ل

سو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ③⑤

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينٍ ③⑥^ل

اور نہ کھانا ہے مگر زخموں کا دھون ③⑥

إِلَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ③⑦^ع

اسے سوائے گناہگاروں کے کوئی نہیں کھائے گا ③⑦

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ③⑧^ل

سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو ③⑧

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ③⑨^ل

اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے ③⑨

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ④①^ع

کہ بے شک یہ (قرآن) رسول کریم کی زبان سے نکلا ہے ④①

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ④②^ط

اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں (مگر) تم بہت ہی کم یقین کرتے ہو ④②

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ۝^ط 42

اور نہ ہی کسی جادوگر کا قول ہے تم بہت ہی کم غور کرتے ہو 42

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝^ط 43

وہ پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے 43

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝^ط 44

اور اگر وہ کوئی بناوٹی بات ہمارے ذمہ لگاتا 44

لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝^ط 45

تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے 45

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝^ط 46

پھر ہم اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے 46

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝^ط 47

پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا 47

وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝^ط 48

اور بے شک وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے 48

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝^ط 49

اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ بعض تم میں سے جھٹلانے والے ہیں 49

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝^ط 50

اور بے شک وہ کفار پر باعث حسرت ہے ﴿۵۰﴾

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿۵۱﴾

اور بے شک وہ یقین کرنے کے قابل ہے ﴿۵۱﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۵۲﴾

۷ع پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بڑا عظمت والا ہے ﴿۵۲﴾

زُكُو عَاتَهَا-۲	سُورَةُ الْمَعَارِجِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا-۴۴
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿۱﴾

ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے ﴿۱﴾

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿۲﴾

کافروں کے لیے کہ اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے ﴿۲﴾

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿۳﴾

جس اللہ کی طرف سے واقع ہو گا جو سیڑھیوں کا (یعنی آسمانوں کا) مالک ہے ﴿۳﴾

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾

جن سیڑھیوں سے (فرشتے اور اہل ایمان کی روحوں اس کے پاس) چڑھ کر جاتی ہیں (اور وہ عذاب) اس دن ہو گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے ﴿۴﴾

فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤

آپ اچھی طرح سے صبر کیے رہیں ⑤

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥

بے شک وہ اسے دور دیکھتے ہیں ⑥

وَنَزَرَهُ قَرِيبًا ⑦

اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں ⑦

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ⑧

جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا ⑧

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨

اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگداراؤن کی طرح ہوں گے ⑨

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ⑩

اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا ⑩

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ⑪

وہ انہیں کھائیں جائیں گے مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب ⑪
کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو دے دے

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ⑫

اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو ⑫

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُكْوِيهِ ⑬

اور اپنے اس کنبہ کو جو اسے پناہ دیتا تھا ⑬

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ⑭

اور ان سب کو جو زمین میں ہیں پھر اپنے آپ کو بچالے ⑭

كَلَّا إِنَّهَا لَأُظَى ⑮

ہرگز نہیں بے شک وہ تو ایک آگ ہے ⑮

نَزَّاعَةً لِّلشَّوْءِ ⑯

کھالوں کو اتارنے والی ⑯

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ⑰

اس کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا ⑰

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ⑱

اور مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا ⑱

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ⑲

بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے ⑲

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ⑳

جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چلا اٹھتا ہے ⑳

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا^{٢١}

اور جب اسے مال ملتا ہے تو بڑا بخیل ہے^{٢١}

إِلَّا الْمُصَلِّينَ^{٢٢}

مگر وہ نمازی^{٢٢}

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ^{٢٣}

جو اپنی نماز پر ہمیشہ سے قائم ہیں^{٢٣}

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ^{٢٤}

اور وہ جن کے مالوں میں حصہ معین ہے^{٢٤}

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^{٢٥}

سائل اور غیر سائل کے لیے^{٢٥}

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ^{٢٦}

اور وہ جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں^{٢٦}

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ^{٢٧}

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں^{٢٧}

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ^{٢٨}

بے شک ان کے رب کے عذاب کا خطرہ لگا ہوا ہے^{٢٨}

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ^{٢٩}

اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ﴿29﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿30﴾

مگر اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں سے سو بے شک انہیں کوئی ملامت ﴿30﴾
نہیں

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿31﴾

پس جو کوئی اس کے سوا چاہے سو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ﴿31﴾
ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿32﴾

اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں ﴿32﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿33﴾

اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں ﴿33﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿34﴾

اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ﴿34﴾

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ﴿35﴾

وہی لوگ باغوں میں عزت سے رہیں گے ﴿35﴾

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مَهْطِعِينَ ﴿36﴾

پس کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں ﴿36﴾

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

دائیں اور بائیں سے ٹولیاں بنا کر ﴿٣٧﴾

أَيُّطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾

﴿٣٨﴾ کیا ہر ایک ان میں سے طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جاوے گا

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ ﴿٣٩﴾ بھی جانتے ہیں

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٤٠﴾

﴿٤٠﴾ پس میں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں (یعنی اپنی ذات کی) کہ ہم ضرور قادر ہیں

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴿٤١﴾ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

﴿٤١﴾ اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر لوگ بدل کر لا سکتے ہیں اور ہم عاجز ﴿٤١﴾ بھی نہیں ہیں

فَذَرَهُمْ يَخْوَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾


﴿٤٢﴾ پھر انہیں چھوڑ دو کہ وہ بیہودہ باتوں اور کھیل میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾

جس دن وہ دوڑتے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا کہ وہ ایک ④
 نشان کی طرف دوڑے چلے جارہے ہیں

ع ٤٤ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ④

ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہو گی یہی وہ دن ④
 ٤٨ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا



إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①
 بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ اپنی قوم ①
 کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ پڑے

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②

اس نے کہا کہ اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ②
 ڈرانے والا ہوں

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③

کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو ③

يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا
 يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④

وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر ④
 تک مہلت دے گا بے شک اللہ کا وقت ٹھیرایا ہوا ہے جب آجائے گا تو

اس میں تاخیر نہ ہوگی کاش تم جانتے

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ⑤

کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا ⑤

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ⑥

پھر وہ میرے بلانے سے اور بھی زیادہ بھاگتے رہے ⑥

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

وَاصْرُؤًا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑦

اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے ⑦
تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیں اور انہوں نے اپنے
کپڑے اوڑھ لیے اور ضد کی اور بہت بڑا تکبر کیا

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ⑧

پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بھی بلایا ⑧

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ⑨

پھر میں نے انہیں علانیہ بھی کہا اور مخفی طور پر بھی کہا ⑨

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ⑩

پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے
والا ہے

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ⑪

وہ آسمان سے تم پر (موسلا داہار) مینہ برسائے گا ⑪

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ⑫
اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ
بنادے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ⑬

تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے ⑬

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ⑭

حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے بنا یا ہے ⑭

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ⑮

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات آسمان اوپر تلے (کیسے) بنائے ⑮
ہیں

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ⑯ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑰

اور ان میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور آفتاب کو چراغ بنا دیا ⑰

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ⑱

اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں سے ایک خاص طور پر پیدا کیا ⑱

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ⑲

پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور اسی میں سے (پھر) باہر ⑲
نکالے گا

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا¹⁹

اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے¹⁹

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جَا²⁰

وَع تَا كِه تَم اس كے كهلے راستوں میں چلو²⁰

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا²¹

نوح نے کہا اے میرے رب بے شک انہوں نے میرا کہنا نہ مانا اور²¹
اس کو مانا جس کو اس کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ بھی
فائدہ نہیں دیا

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا²²

اور انہوں نے بڑی زبردست چال چلی²²

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا²³ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا²³

اور کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ ود اور سواع اور²³
یغوث اور یعوق اور نسر کو چھوڑو

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا²⁴ وَلَا تَزِرِ الظُّلْمِينَ إِلَّا ضَلَالًا²⁴

اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا اور (اب آپ) ان ظالموں کی²⁴
گمراہی اور بڑھا دیجیئے

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا²⁵ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا²⁵

وہ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیئے گئے پھر دوزخ میں ②۵
داخل کیے گئے پس انہوں نے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہ
پایا

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ②۶

اور نوح نے کہا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے ②۶
والا نہ چھوڑ


إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ②۷

اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ②۷
نسل بھی جو ہو گی تو فاجر اور کافر ہی ہو گی

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ
الضَّالِّمِينَ إِلَّا تَبَارًا ②۸

اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اس کی ②۸
جو میرے گھر میں ایماندار ہو کر داخل ہو جائے اور ایماندار مردوں اور
عورتوں کو اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ کر

الصف ۱۰ ع



قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ①

کہہ دو کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ کچھ جن (مجھ سے) ①
قرآن پڑھتے) سن گئے ہیں پھر انہوں نے (اپنی قوم سے) جا کر کہہ دیا
کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَأْتُوا بِهِ ۗ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۗ ②

جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ②
ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں گے

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۗ ③

اور ہمارے رب کی شان بلند ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا ③

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۗ ④

اور ہم میں سے بعض بے وقوف ہیں جو اللہ پر جھوٹی باتیں بنایا ④
کرتے تھے

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ ⑤

اور ہمیں خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز چھوٹ نہ بولیں گے ⑤

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۗ ⑥

اور کچھ آدمی جنوں کے مردوں سے پناہ لیا کرتے تھے سو انہوں نے ⑥
ان کی سرکشی اور بڑھا دی

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۗ ⑦

اور وہ بھی سمجھے ہوئے تھے جیسا کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ⑦
ہر گز کسی کو (رسول بنا کر) نہ بھیجے گا

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ⑧

اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شعلوں ⑧
سے بھرا ہوا پایا

وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ⑨ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ⑨

اور ہم نے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے پس ⑨
جو کوئی اب کان دھرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تاک لگانے
ہوئے پاتا ہے

وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ⑩

اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ⑩
ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا ہے

وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَرًا ⑪

اور کچھ تو ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے ہم بھی ⑪
مختلف طریقوں پر تھے

وَأَنَا ظَنْنَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ⑫

اور بے شک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں کبھی عاجز ⑫
نہ کر سکیں گے اور نہ ہی ہم بھاگ کر عاجز کر سکیں گے

وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أُمَّتًا بِهِ ⑬ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ⑬

اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے پھر جو ⑬
اپنے رب پر ایمان لے لایا تو نہ اسے نقصان کا ڈر رہے گا اور نہ ظلم
کا

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ⑭
اور کچھ تو ہم میں سے فرمانبردار ہیں اور کچھ نافرمان پس جو کوئی ⑭
فرمانبردار ہو گیا سو ایسے لوگوں نے سیدھا راستہ تلاش کر لیا

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ⑮
اور لیکن جو ظالم ہیں سو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے ⑮

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ⑯
اور اگر (مکہ والے) سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو با ⑯
افراط پانی سے سیراب کرتے

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ⑰
تاکہ اس (ارزانی) میں ان کا امتحان کریں اور جس نے اپنے رب کی ⑰
یاد سے منہ موڑا تو وہ اسے سخت عذاب میں ڈالے گا

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ⑱
اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ⑱
پکارو

وَأَنَّ لِمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ⑲ ط ع

اور جب اللہ کا بندہ (نبی) اس کو پکارنے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس پر ①۹
اعجہمگنا کرنے لگتے ہیں

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ②۰

کہہ دو میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی ②۰
کو بھی شریک نہیں کرتا

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ②۱

کہہ دو میں نہ تمہارے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ②۱
بھلائی کا

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۚ وَلَنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ②۲

کہہ دو مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور نہ مجھے اس کے ②۲
سوا پناہ ملے گی

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
أَبَدًا ②۳

مگر اللہ کا پیغام اور اس کا حکم پہنچانا ہے اور جو کوئی اللہ اور اس ②۳
کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس
میں وہ سدا رہے گا

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَّاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ②۴

یہاں تک کہ جب وہ (عذاب) دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ②۴
ہے تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور اور شمار میں کم ہیں

قُلْ إِنْ أَدْرَيْتُمْ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝۲۵

کہہ دو مجھے خبر نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے ۝۲۵
یا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت ٹھہراتا ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝۲۶

وہ غیب جاننے والا ہے اپنے غائب کی باتوں پر کسی کو واقف نہیں ۝۲۶
کرتا


إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝۲۷

مگر اپنے پسندیدہ رسول کو پھر اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر ۝۲۷
کر دیتا ہے

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝۲۸

۴۱۲

تاکہ وہ بظاہر جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ۝۲۸
اور اللہ نے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور اس نے ہر
۴۱۲ چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے



يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ۝۱

اے چادر اوڑھنے والے ۝۱

قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ②

رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا حصہ ②

نُصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ③

آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا سا حصہ کم کر دے ③

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④

یا اس پر زیادہ کر دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ④

إِنَّا سَأَلْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤

ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات کا (بوجھ) ڈالنے والے ہیں ⑤

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ⑥

بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور بات بھی صحیح ⑥
نکلتی ہے

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ⑦

بے شک دن میں آپ کے لیے بڑا کام ہے ⑦

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَوَّأَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ⑧

اور اپنے رب کا نام لیا کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف آ جاؤ ⑧

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑨

وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ⑨
پس اسی کو کارساز بنا لو

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑩

اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں عمدگی سے چھوڑ دو ⑩

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ⑪

اور مجھے اور جھٹلانے والے دولت مندوں کو چھوڑ دو اور انہیں ⑪
تھوڑی سی مدت و مہلت دو

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ⑫

بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے ⑫

وَطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬

اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ⑬

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑭

جس دن زمین اور پہاڑ لرزیں گے اور پہاڑ ریگ رواں کے تودے ہو ⑭
جائیں گے

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۖ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

ہم نے تمہاری طرف تم پر گواہی دینے والا ایک رسول بھیجا ہے کہ ⑮
جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيعًا ⑯

پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت پکڑ ^{۱۶}
سے پکڑ لیا

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ^{۱۷} ^ط

پھر تم کس طرح بچو گے اگر تم نے بھی انکار کیا اس دن جو لڑکوں ^{۱۷}
کو بوڑھا کر دے گا

إِلِّ السَّمَاءِ مُنْفَطِرٌ بِهِ ^{۱۸} ^ط كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

اس دن آسمان پھٹ جائے گا اس کا وعدہ ہو کر رہے گا ^{۱۸}

إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ ^{۱۹} ^ع فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

بے شک یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے پھر جو چاہے اپنے رب کی ^{۱۹}
۱۳ ع طرف آنے کا راستہ بنا لے

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ
مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرُّوا بِاللهِ قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^{۲۰} ^ع

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ②۰ (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) آدھی رات اور (کبھی) تہائی رات سے (نماز تہجد) میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم اس کو نباہ نہیں سکتے سو اس نے تم پر رحم کیا پس پڑھو جتنا قرآن میں سے آسان ہو اسے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ اور لوگ بھی جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے زمین پر سفر کریں گے اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے پس پڑھو جو اس میں سے آسان ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھی طرح (یعنی اخلاص سے) قرض دو اور جو کچھ نیکی آگے بھیجو گے اپنے واسطے تو اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور بڑے اجر کی چیز پاؤ گے اور اللہ سے ۱۲ع بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے

۵۶- آیاتھا	سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ (مکی)	رُكُوْعَاتُهَا- ۲
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ①

اے کپڑے میں لپٹنے والے ①

قُمْ فَأَنْذِرْ ②

اٹھو پھر (کافروں کو) ڈراؤ ②

اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو ③

[کتاب: صحیح البخاری(وحی) # 4, راوی:جبیر بن عبدلہ الأنصاری] الباری

وَتِيَابَكَ فَطَهَّرْ^{لاص} ④

اور اپنے کپڑے پاک رکھو ④

[کتاب: صحیح البخاری(وحی) # 4, راوی:جبیر بن عبدلہ الأنصاری] الباری

وَالرُّجُزَ فَأَهْجُرْ^{لاص} ⑤

اور میل کچیل دور کرو ⑤

[کتاب: صحیح البخاری(وحی) # 4, راوی:جبیر بن عبدلہ الأنصاری] الباری

وَلَا تَمُنْ تَسْتَكْثِرْ^{لاص} ⑥

اور بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہ کرو ⑥

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ^ط ⑦

اور اپنے رب کے لیے صبر کرو ⑦

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ^{لاص} ⑧

پھر جب صور میں پھونکا جائے گا ⑧

فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ^{لاص} ⑨

پس وہ اس دن بڑا کٹھن دن ہو گا ⑨

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرٍ يَسِيْرٍ^{لاص} ⑩

کافروں پر وہ آسان نہ ہو گا ⑩

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝^{۱۱}

مجھے اور اس کو چھوڑ دو کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ۝^{۱۱}

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝^{۱۲}

اور اس کو بڑھنے والا مال دیا ۝^{۱۲}

وَوَيْنِينَ شُهُودًا ۝^{۱۳}

اور حاضر رہنے والے بیٹے دیئے ۝^{۱۳}

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۝^{۱۴}

اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان تیار کر دیا ۝^{۱۴}

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝^{۱۵}

پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور بڑھا دوں ۝^{۱۵}

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝^{۱۶}

ہرگز نہیں ہے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے ۝^{۱۶}

سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا ۝^{۱۷}

عنقریب میں اسے اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا ۝^{۱۷}

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝^{۱۸}

بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا ۝^{۱۸}

فُقْتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝¹⁹

پھر اسے اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا ۝¹⁹

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝²⁰

ثُمَّ نَظَرَ ۝²¹

پھر اس نے دیکھا ۝²¹

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝²²

پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا ۝²²

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝²³

پھر پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا ۝²³

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝²⁴

پھر کہا یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے ۝²⁴

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝²⁵

یہ تو ہو نہ ہو آدمی کا کلام ہے ۝²⁵

سَأُصَلِّيهِ سَقَرًا ۝²⁶

عنقریب اس کو دوزخ میں ڈالوں گا ۝²⁶

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝²⁷

اور آپ کو کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے ۝²⁷

لَا تُبْقَى وَلَا تَذَرُ ۚ ﴿٢٨﴾

نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے ﴿٢٨﴾

لَوَاحِةٌ لِلْبَشَرِ ۚ ﴿٢٩﴾

آدمی کو جھلس دے ﴿٢٩﴾

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۚ ﴿٣٠﴾

اس پر انیس (فرشتے) مقرر ہیں ﴿٣٠﴾

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۚ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَيْسَتِ يَقِينِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۚ ﴿٣١﴾

اور ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی رکھے ہیں اور ان کی تعداد کافروں ﴿٣١﴾ کے لیے آزمائش بنائی ہے تاکہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یقین کر لیں اور ایمان داروں کا ایمان بڑھے اور تاکہ اہل کتاب اور ایمان دار شک نہ کریں اور تاکہ جن کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے اور کافر یہ کہیں کہ اللہ کی اس بیان سے کیا غرض ہے اور اللہ اس طرح سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور دوزخ (کا) ۱۵ حال بیان کرنا) صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے

كَلَّا وَالْقَمَرَ ۙ ﴿٣٢﴾

نہیں نہیں قسم ہے چاند کی ﴿٣٢﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۙ ﴿٣٣﴾

اور رات کی جب وہ ڈھلے ﴿٣٣﴾

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۙ ﴿٣٤﴾

اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے ﴿٣٤﴾

إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبْرَى ۙ ﴿٣٥﴾

کہ وہ (دوزخ) بڑی بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے ﴿٣٥﴾

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۙ ﴿٣٦﴾

انسان کو ڈرانے والی ہے ﴿٣٦﴾

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۙ ﴿٣٧﴾

تم میں سے ہر ایک کے لیے خواہ کوئی اس کے آگے آئے یا پیچھے ﴿٣٧﴾
ہٹے

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۙ ﴿٣٨﴾

ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروی ہے ﴿٣٨﴾

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۙ ﴿٣٩﴾

مگر داہنے والے ﴿٣٩﴾

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ^ل ④٠

باغوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے ④٠

عَنِ الْمُجْرِمِينَ^ل ④١

گناہگاروں کی نسبت ④١

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ④٢

کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا ④٢

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ^ل ④٣

وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے ④٣

وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ^ل ④٤

اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے ④٤

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ^ل ④٥

اور ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے ④٥

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ^ل ④٦

اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے ④٦

حَتَّىٰ آتْنَا الْيَقِينَ^ط ④٧

یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچی ④٧

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّعِينِ^ط ④٨

پس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی ﴿48﴾

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿49﴾

پسانہیں کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں ﴿49﴾

كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿50﴾

گویا کہ وہ بدکنے والے گدھے ہیں ﴿50﴾

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿51﴾

جو شیر سے بھاگے ہیں ﴿51﴾

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتِي صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿52﴾

بلکہ ہر ایک آدمی ان میں سے چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیئے جائیں ﴿52﴾

كَلَّا ۚ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿53﴾

ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے ﴿53﴾

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ﴿54﴾

ہرگز نہیں بے شک یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے ﴿54﴾

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿55﴾

پس جو چاہے اس کو یاد کر لے ﴿55﴾

ع وَاللَّامِئَاتِ ۚ وَمَا يَدُّ كُرُونًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿56﴾

اور کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا مگر جبکہ اللہ ہی چاہے وہی جس ⑤۶
ع۱۶ سے ڈرنا چاہیے اور وہی بخشنے والا ہے

آیۃھا۔ ۴۰

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ (مکی)

رُكُوْعَاتُهَا۔ ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ ①

قیامت کے دن کی قسم ہے ①

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ②

اور پشیمان ہونے والے شخص کی قسم ہے ②

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ③

کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے ③

بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ④

ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں ④

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ⑤

بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے ⑤

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ⑥

پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہو گا ⑥

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑦

پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی ⑦

وَخَسَفَ الْقَمَرُ^٨

اور چاند بے نور ہو جائے گا^٨

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ^٩

اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے^٩

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُجُ^{١٠}

اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے^{١٠}

كَلَّا لَا وَزَرَ^{١١}

ہر گز نہیں کہیں پناہ نہیں^{١١}

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ^{١٢}

اس دن آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے^{١٢}

يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ^{١٣}

اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا لایا اور کیا چھوڑ آیا^{١٣}

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ^{١٤}

بلکہ انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے^{١٤}

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ^{١٥}

گو وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے^{١٥}

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ^{١٦}

آپ (وحی ختم ہونے سے پہلے) قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیئے ①⑥
تاکہ آپ اسے جلدی جلدی لیں

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ①⑦ ط

بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے ①⑦

فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ①⑧ ج

پھر جب ہم اسکی قرأت کر چکیں تو اس کی قرأت کا اتباع کیجیئے ①⑧

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ①⑨ ط

پھر بے شک اس کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے ①⑨

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ②⑩ ل

ہر گز نہیں بلکہ تم تو دنیا کو چاہتے ہو ②⑩

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ②① ط

اور آخرت کو چھوڑتے ہو ②①

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ②② ل

کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے ②②

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ②③ ج

اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے ②③

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ②④ ل

اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے ﴿۲۴﴾

تُظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿۲۵﴾ ط

خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والی سختی کی ﴿۲۵﴾
جائے گی

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿۲۶﴾ ل

نہیں نہیں جب کہ جان گلے تک پہنچ جائے گی ﴿۲۶﴾

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿۲۷﴾ ل سکتہ

اور لوگ کہیں گے کوئی جھاڑنے والا ہے ﴿۲۷﴾

وَوَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿۲۸﴾ ل

اور وہ خیال کرے گا کہ یہ وقت جدائی کا ہے ﴿۲۸﴾

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۲۹﴾ ل

اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی ﴿۲۹﴾

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿۳۰﴾ ط ع

۱۷۷ تیرے رب کی طرف اس دن چلنا ہوگا ﴿۳۰﴾

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿۳۱﴾ ل

پھر نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی ﴿۳۱﴾

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿۳۲﴾ ل

بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا ﴿۳۲﴾

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿۳۳﴾

پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکرٹا ہوا چلا گیا ﴿۳۳﴾

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿۳۴﴾

اے انسان (تیرے لیے افسوس پر افسوس ہے) ﴿۳۴﴾

ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿۳۵﴾

پھر تیرے لیے افسوس پر افسوس ہے ﴿۳۵﴾

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًىٰ ﴿۳۶﴾

کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یونہی چھوڑ دیا جائے گا ﴿۳۶﴾

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿۳۷﴾

کیا وہ ٹپکتی منی کی ایک بوند نہ تھا ﴿۳۷﴾

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿۳۸﴾

پھر وہ لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اسے بنا کر ٹھیک کیا ﴿۳۸﴾

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿۳۹﴾

پھر اس نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا ﴿۳۹﴾

۱۸ ۱۸ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۗ ﴿۴۰﴾

۱۸ پھر کیا وہ اللہ مردے زندہ کر دینے پر قادر نہیں ﴿۴۰﴾

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ①

انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ①
ذکر نہ تھا

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ②

بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا ہم اس کی ②
آزمائش کرنا چاہتے تھے پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③

بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ③
ناشکرا

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ④

بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دھکتی آگ ④
تیار کر رکھی ہے

إِنَّ الْأَكْبَرَاءَ يَسْتَرْبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ⑤

بے شک نیک ایسی شراب کے پیالے پئیں گے جس میں چشمہ کافور ⑤
کی آمیزش ہو گی

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ⑥

وہ ایک چشمہ ہو گا جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اس کو ⑥
آسانی سے بہا کر لے جائیں گے

يُؤْفُونَ بِاللَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑦

وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس ⑦
کی مصیبت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑧

اور وہ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ⑧
ہیں

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑨

ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو خاص اللہ کے لیے نہ ہمیں تم سے بدلہ لینا ⑨
مقصود ہے اور نہ شکرگزاری

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ⑩

ہم تو اپنے رب سے ایک اداس (اور) ہولناک دن سے ڈرتے ہیں ⑩

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا ⑪

پس اللہ اس دن کی مصیبت سے انہیں بچالے گا اور ان کے سامنے ⑪
تازگی اور خوشی لائے گا

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ⑫

اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی پوشاکیں دے گا ⑫

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ⑬

اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے نہ وہاں دھوپ دیکھیں ⑬
گے اور نہ سردی

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ⑭

اور ان پر اس کے سائے جھک رہے ہوں گے اور پھلوں کے گوشے ⑭
بہت ہی قریب لٹک رہے ہوں گے

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ⑮

اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخوروں کا دور چل رہا ⑮
ہوگا

قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ⑯

شینیے بھی چاندی کے شیشے جو ایک خاص اناز پر ڈھالے گئے ہوں ⑯
گے

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ⑰

اور انہیں وہاں ایسی شراب کا پیالہ پلایا جائے گا جس میں سونٹھ کی ⑰
آمیزش ہو گی

عَيْنًا فِيهَا تُسْمَىٰ سَلْسَبِيلًا ⑱

وہ وہاں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے ⑱

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ⑲

اور ان کے پاس سدا رہنے والے لڑکے (خادم) گھومتے ہوں گے جو ⑲
تو ان کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ⑳

اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت اور بڑی سلطنت دیکھے گا ㉑

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرًا مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ
شَرَابًا طَهُورًا ㉒

ان پر باریک سبز اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے اور انہیں چاندی ㉑
کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا رب پاک شراب پلائے گا

«إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا» ㉓

بے شک یہ تمہارے (نیک اعمال کا) بدلہ ہے اور تمہاری کوشش ㉒
۱۹ ع مقبول ہوئی

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ㉔

بے شک ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا ہے ㉓

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ㉕

پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کریں اور ان میں سے کسی ㉔
بدکار یا ناشکرے کا کہا نہ مانا کریں

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ㉖

اور اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کیا کریں ㉕

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کو سجدہ کیجیئے اور رات میں دیر ﴿٢٦﴾
تک اس کی تسبیح کیجیئے

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

بے شک یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن ﴿٢٧﴾
کو چھوڑتے ہیں

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کر دیئے اور جب ہم ﴿٢٨﴾
چاہیں ان جیسے ان کے بدلے اور لا سکتے ہیں

إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

بے شک یہ ایک نصیحت ہے پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی ﴿٢٩﴾
طرف راستہ اختیار کرے

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا بے شک اللہ سب کچھ ﴿٣٠﴾
جاننے والا حکمت والا ہے

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے ﴿٣١﴾
ع. ۲۰ تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ①

ان ہواؤں کی قسم ہے جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں ①

فَالْعَصْفِ عَصْفًا ②

پھر ان ہواؤں کی جو تندی سے چلتی ہیں ②

وَالنَّشْرِ نَشْرًا ③

اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں ③

فَالْفِرْقَاتِ فَرَقًا ④

پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں ④

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ⑤

پھر ان ہواؤں کی جو (دل میں) اللہ کی یاد کا القا کرتی ہیں ⑤

عَذْرًا أَوْ تَذْرًا ⑥

الزام اتارنے یا ڈرانے کے لیے ⑥

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاعِعٌ ⑦

جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے ⑦

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ⑧

پس جب ستارے مٹا دیئے جائیں گے ⑧

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ^٩

اور جب آسمان پھٹ جائیں گے^٩

وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ^{١٠}

اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے^{١٠}

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَتْ^{١١}

اور جب رسول وقت معین پر جمع کیے جائیں گے^{١١}

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ^{١٢}

کس دن کے لیے تاخیر کی گئی تھی^{١٢}

لِيَوْمِ الْفُضْلِ^{١٣}

فیصلہ کے دن کے لیے^{١٣}

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الْفُضْلِ^{١٤}

اور آپکو کیا معلوم کہ فیصلہ کا دن کیا ہے^{١٤}

وَيُلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^{١٥}

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے^{١٥}

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ^{١٦}

کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا^{١٦}

ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ^{١٧}

پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو چلائیں گے ﴿۱۷﴾

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۸﴾

مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں ﴿۱۸﴾

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۱۹﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ﴿۱۹﴾

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِِيْنٍ ﴿۲۰﴾

کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا ﴿۲۰﴾

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿۲۱﴾

پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا ﴿۲۱﴾

اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۲۲﴾

ایک معین اندازے تک ﴿۲۲﴾

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿۲۳﴾

پھر ہم نے اندازہ لگایا تو ہم تو کیسے اچھے اندازہ لگانے والے ہیں ﴿۲۳﴾

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۲۴﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ﴿۲۴﴾

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿۲۵﴾

کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا ﴿۲۵﴾

أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتًا^{٢٦}

زندوں اور مردوں کو^{٢٦}

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شُمْخَاتٍ^{٢٧} وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا^{٢٧}

اور ہم نے اس میں مضبوط اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیئے اور ہم نے^{٢٧}
تمہیں میٹھا پانی پلایا

وَيُلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^{٢٨}

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے^{٢٨}

إِنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ^{٢٩}

اس (دوزخ) کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے^{٢٩}

إِنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ^{٣٠}

ایک سائبان کی طرف چلو جسکے تین حصے ہیں^{٣٠}

لَا ظِلِّيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ^{٣١}

نہ وہ سایہ کرے اور نہ تپش سے بچائے^{٣١}

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ^{٣٢}

بے شک وہ محل جیسے انگارے پھینکے گی^{٣٢}

كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرًا^{٣٣}

گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں^{٣٣}

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ﴿٣٤﴾

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾

یہ وہ دن ہے جس میں بات بھی نہ کر سکیں گے ﴿٣٥﴾

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾

اور نہ انہیں عذر کرنے کی اجازت ہو گی ﴿٣٦﴾

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ﴿٣٧﴾

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَئِينَ ﴿٣٨﴾

یہ فیصلہ کا دن ہے ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے ﴿٣٨﴾

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٣٩﴾

پس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ پر کر دیکھو ﴿٣٩﴾

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ﴿٤٠﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونَ ﴿٤١﴾

بے شک پرہیزگار ٹھنڈی چھاؤں اور چشموں میں ہوں گے ﴿٤١﴾

وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾

اور میووں میں جو وہ چاہیں گے ④۲

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ④۳

مزے سے کھاؤ اور پیو ان کاموں کے بدلے جو تم کرتے رہے ④۳

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ④۴

بے شک ہم اسی طرح نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں ④۴

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ④۵

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ④۵

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ④۶

کھاؤ اور چند روز فائدہ اٹھاؤ بے شک تم مجرم ہو ④۶

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ④۷

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ④۷

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ④۸

اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو رکوع نہ کرتے تھے ④۸

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ④۹

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ④۹

ع۲۲ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ⑤۰

ع۲۲ پس اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے ⑤۰

